



“آئس”

آپکے دماغ کو ختم کر سکتی ہے

“آئس” کا غلط استعمال باعث بنتا ہے

- رات کو نیند نہ آنا
- ذہنی دباؤ
- چڑچڑا پن۔ تنک مزاجی
- وہم و گمان
- حالت غشی یا بے ہوشی

(خدمات صرف کینٹونیز اور انگریزی میں دستیاب ہیں۔)

186 186 : مدد/معلومات کیلئے ہاٹ لائن

98 186 186 : واٹس ایپ/ویپی چیٹ



منشیات کی روک تھام کا ادارہ (نیرو کوئکس ڈویژن،
سیوریٹی پورٹ)



منشیات کے خلاف عمل درآمد کمیٹی (ایکشن کمیٹی
آگینسٹ نیرو کوئکس)

